

سندھ میں علم سیرت کا ارتقا

سیرت عربی زبان کا لفظ ہے اور سیرت کی جمع سیر ہے جس کے لفظی معنی عادت، حالت اور چال چلن کے ہیں۔ فنی لحاظ سے ”علم السیر“ ایک علم ہے جسے ”المغازی“ بھی کہا جاتا ہے۔
 ”مغازی“ میں امام زہری کو سب سے پہلے مصنف شمار کیا جاتا ہے، لیکن سیر اور مغازی میں سرزمین سندھ کے پہلے محدث امام ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی (وفات ۱۷۰ھ) ہیں۔ انھوں نے ”کتاب المغازی“ تحریر کی تھی جو کہ ایک سندھی عالم کی سیرت پر پہلی کتاب ہے۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب اس وقت ناپید ہے۔ ان کی روایتیں مؤلف کے شاگردوں اور ان کی کتابوں میں ملتی ہیں۔
 مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تبلیغ و دعوت اسلام کے سلسلے میں جو خطوط لکھے، ان کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے اور یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے عالم امام ابو جعفر محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ دیلمی نے اس کتاب کو تالیف کیا۔ یہ کتاب اصل متن اور سندھی ترجمے کے ساتھ سندھی ادبی بورڈ حیدر آباد سندھ کے تعاون سے شائع کی جا رہی ہے۔ امام مسعود بن شبیبہ بن حسن سندھی کی ”کتاب التعلیم“ اور ”مقدمہ کتاب التعلیم“ جو امام ابو حنیفہ کے تعلیمی نظریے کی وضاحت کے لیے لکھی گئی تھی، ان میں سے مؤخر الذکر ”مقدمہ کتاب التعلیم“ سندھی ادبی بورڈ حیدر آباد سندھ کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔

سندھ کا قدیم مذہبی سرمایہ

سندھ کے قدیم مذہبی سرمایہ میں تاریخی اور بنیادی معلومات کو نگاہ میں رکھ کر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ”سندھی زبان میں سندھ کے ہباری قریش خاندان کے دور میں ہوا اور برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حضرت مخدوم نوحؒ بالاسندھ (وفات ۱۵۹ھ) کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انھوں نے قرآن شریف کا فارسی ترجمہ کیا۔ یہ دونوں ترجمے سیرت پاک

کے لحاظ سے اولین سرچشمہ ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق سندھ میں تین کتابیں لکھی گئی ہیں؛ مثلاً (۱) شرح مشکوٰۃ از مخدوم عبدالعزیز (ساکن کابل، ضلع دادو سندھ)۔ یہ عربی میں تھی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ”لمعات“ (فارسی) کا ماخذ ہے (۲) حواشی متین فارسی (فارسی) از قاضی محمود ساکن ٹھٹھہ سندھ اور (۳) شرح اربعین (فارسی) از مخدوم رکن الدین ٹھٹھوی۔

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی (۱۶۶۰ء - ۱۷۶۰ء) کی خدمات قابلِ تعریف ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ عالم، فقیہ، مفسر، مبلغ اسلام اور شاعر تھے۔ ان کی کتابیں پرانے زمانے کی طرز کی سندھی نظم میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ غلط کے دوران نظم کو لوگ زیادہ پسند کرتے تھے۔ مخدوم صاحب نے جوانی کے زمانے سے ہی تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور انھوں نے عربی، فارسی اور سندھی میں تقریباً ایک سو سچاس کتابیں لکھیں، جن میں سے مندرجہ ذیل کتابیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آج بھی بطور سند پش کی جاسکتی ہیں۔

(۱) بذل القوة فی حوادث سنی النبوة: عربی میں سیرت النبی کے متعلق بصری میں یہ شاید پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں ہجرت سے پہلے سال بہ سال کے واقعات ترتیب وار دیے گئے ہیں۔ حصہ دوم کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں غزوات، سرایا اور دوسرے واقعات شامل ہیں۔ مولف نے یہ کتاب ۵ ذی الحجہ ۱۱۶۶ھ میں شروع کی اور ۴ صفر ۱۱۶۸ھ میں ختم کی۔ یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ حیدرآباد سندھ نے مرحوم مخدوم امیر احمد کے مقدمے کے ساتھ شائع کی ہے، جس کا سندھی ترجمہ ”الرحیم“ (حیدرآباد سندھ) اور اردو ترجمہ ”ماہنامہ بینات“ (کراچی) سندھ سے شائع ہوتا رہا ہے۔

(۲) حدیث الصفا فی اسماء المصطفیٰ: (عربی) : اس کتاب میں آنحضرت کے گیارہ سو کیا ای نام مش کیے گئے ہیں۔ ہر ایک نام کی فضیلت اور برکت بھی بیان کی گئی ہے۔

(۳) وسیلۃ الفقیر بشرح اسماء الرسول البشیر (فارسی) : یہ کتاب حدیث الصفا کی

شرح ہے۔

(۴) خمسة قصائد (عربی) : اس کا ایک نادر نسخہ جناب مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب

(حیدرآباد) کے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے۔

(۵) وسیلۃ الغریبہ الی جناب الحبیب (فارسی) : اس کتاب میں اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے دو نادر نسخے مولف کے خط میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ جناب مولانا قاسمی صاحب اور دوسرا نسخہ جناب قاضی غلام محمد قریشی ہالاکہ کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔

(۶) ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول (فارسی) : یہ کتاب مولف کے خط میں آفست پر ”مہراں آرٹ کو نسل“ حیدرآباد نے شائع کی ہے اور اس میں درود نبی کریم کی فضیلت کے متعلق احادیث ماثورہ، موقوفہ، آثار تابعین وغیرہ کا ذکر ہے اور معتبر کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں۔ (۷) ”قوت العاشقین“ (سندھی میں منظوم) سن تالیف ۱۱۲۷ھ (فہرست نمبر ۱)۔ برصغیر کی رائج زبانوں میں سیرت پاک پر یہ پہلی کتاب ہے جو کہ سندھی زبان میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی نے تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں صرف معجزات رسول اکرمؐ پر تحقیق کی گئی ہے اور آپ کے ایک سو ساٹھ معجزے پوری تحقیق اور سند کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جیسے مولف خود فرماتے ہیں :

ہیکے معجزا ہن سندھی میں بیڑے مون آکھیا	سے آہن ہیکٹر وسوٹھ معجزیں مجھیں مل طریقا
جیٹھی معجزا ہن سنڈی میریٹری مون آکھیا	سی آکھن ہیکٹر وسوٹھ معجزیں مجھیں مل طریقا
ہاشم جیڑے حقیریں کریں عفو عطا	نالائقن نصیب کریں شافع شفا عطا
ہاشم جھٹری حقیریں کریں عفو عطا	نالائقن نصیب کریں شافع شفا عطا

اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مدح رسول کریمؐ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ کنز العبرت : یہ مخدوم عبداللہ نری کچھ والے کی تالیف ہے۔ اس کی پہلی جلد میں رسول کریمؐ کے معراج پر جانے کے واقعہ کی تفصیل، کافروں سے جنگیں، حضور اکرمؐ کی شب و روز کی تفصیل ملتی ہے اور دوسری جلد میں حج کی حقیقت، بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق حقائق، حضور اکرمؐ کی زیارت، آپؐ کی رحلت، نبی کریمؐ کی ازواج مطہرات کی تفصیل، رسول اکرمؐ کی اولاد اور اصحاب کرام کی اولاد کا ذکر ہے۔ دراصل ”کنز العبرت“ سیرت پاک پر معلومات کا ایک ذخیرہ ہے اور مستند کتب حدیث و تاریخ سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب دوبارہ لیتھو پر شائع ہوئی ہے جس کا مقدمہ جناب مولانا غلام محمد لطفی قاسمی صاحب نے لکھا ہے۔ مولوی حاجی عبداللہ لغاری صاحب مرحوم نے اس کا کچھ حصہ جدید سندھی

نامت میں شائع کرایا ہے۔

قصر المنیر: (فہرست نمبر ۲): یہ مخدوم عبداللہ کی دوسری کتاب ہے اور یہ عربی زبان کی کتاب "شرح سراج المنیر" کا منظوم سندھی ترجمہ ہے اور بمبئی سے ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۶۰ھ / ۳۱ مئی ۱۸۴۴ء میں شائع ہوئی۔ چونکہ مخدوم عبداللہ عاشق رسول تھے اس لیے اس کتاب میں پُر نرزا کمت تشبیہوں، استعاروں اور تشبیحوں کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔

مخدوم صاحب کی ایک دوسری کتاب "مجموعہ" بھی لیتھو پرنٹ شائع ہوئی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے پانچ کتابچے ہیں، ان میں سے ایک "غزوات" ہے جو رسول اکرم کی جنگوں کے متعلق ہے اور دوسری کتاب "شجاعت سیدنا ام" ہے جس میں رسول اکرم کی جسمانی طاقت اور قوت کا ذکر کیا گیا ہے۔

سیرِ بستان: یہ کتاب سندھی نظم میں مولانا محمد حسین نورنگ زادے کی فارسی کتاب "قصص الانبیا" کا ترجمہ ہے اور ۱۱۷۷ھ / ۱۸۶۳ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول مقبول تک قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے اخذ شدہ معلومات دی گئی ہیں اور ان کے حوالے سے اخلاقی نصیحتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب پور بندر (کاٹھیاواڑ) سے شائع ہوئی تھی۔

شمائل نبوی: (فہرست نمبر ۴ - نمبر ۱۱۱): یہ تیسری صدی کے مشہور محدث امام ترمذی کے شمائل النبی (عربی کتاب) کا منظوم سندھی ترجمہ ہے۔ یہ کتاب عربی مدارس کے نصاب میں داخل ہے اور اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں رسول اکرمؐ کے اخلاق و عادات، صورت و سیرت کا ذکر ہے۔ کتاب کی عبارت، قدیم سندھی نظم میں ہے۔

اس کے علاوہ مولانا دین محمد پنوی مرحوم نے بھی سندھی ترجمہ شمائل نبوی کے نام سے سندھی نشر میں کیا ہے لیکن یہ ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے دور کے ایک عالم دین مولانا عبدالکبیر پیروالے نے "شمائل" کا سندھی نشر میں ترجمہ کر کے اس کی مفصل شرح بھی سندھی نشر میں لکھی ہے۔ یہ کتاب دو مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور "فضائل النبی، ترجمہ شمائل الترمذی" کے نام سے مشہور ہے (دیکھئے فہرست نمبر ۱۳۹) "مشکوٰۃ المصابیح": "مٹیاری" قصبہ کو سرزمین سندھ کی قدیم درس گاہوں میں علم و دین کا مرکز تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ قصبہ حیدرآباد سے تقریباً ۱۶ کلومیٹر دور، قومی شاہراہ پر واقع ہے یہاں کے عالم و بزرگ مخدوم محمد عثمان بن عبداللہ نے علمِ نبی کی بڑی خدمت کی۔ مشکوٰۃ شریف سے حدیثیں

منتخب کر کے دو سو چھیانوے بابوں پر مشتمل فارسی میں شرح لکھی جس کا نام ”بیان معانی احادیث منتخبہ از مشکوٰۃ المصابیح“ ہے۔ یہ کتاب ۲۹ ذی الحجہ ۱۲۰۰ھ کو مکمل کی گئی۔

مخدوم محمد عثمان نے بروز پیر ۲۳ شوال ۱۲۱۷ھ کو ”بیج بخاری“ کا بھی نصف سے زیادہ حصہ فارسی میں مکمل کر لیا تھا۔ یہ مسودہ آج بھی موجود ہے جس میں مخدوم محمد اکرم نصیر پوری کی شرح سے تلخیص بھی نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح مخدوم صاحب نے ”شمائل ترمذی“ کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔

نبیۃ الموالید (عربی) : یہ تالیف دائرۃ شریف (اوڈیو ریل ضلع سانگھڑ سندھ) کے سید علی محمد شاہ (۱۲۲۶ھ - ۱۲۸۷ھ) کی ہے اور یہ کتاب ۹ ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں حضور اکرم کی ولادت اور سیرت کا ذکر ہے۔

تجربید بخاری : برصغیر میں سب سے پہلے ”تجربید بخاری“ کا سندھی ترجمہ مولانا دین محمد وفائی مرحوم نے کیا اور اس عظیم کتاب کا اردو یا دوسری زبانوں میں ترجمہ بعد میں ہوا۔ یہ کتاب سکھر کے حکیم عبدالحق مرحوم نے لیتھو پریہ الامام باری ترجمہ تجربید بخاری کے نام سے شائع کی ہے۔

قصیدہ بردہ : یہ علامہ بوصیریؒ کا مشہور نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں رسول کریم کی سیرت طیبہ کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ قصیدہ بہت مقبول ہے اور اس کی شرحیں اور ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

سندھ میں بھی یہ قصیدہ مقبول عام رہا ہے اور سندھ میں سب سے پہلے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی مرحوم نے اس کی مبسوط شرح لکھی۔ مخدوم محمد شفیع پٹانی نے اس کا منظوم سندھی ترجمہ کیا۔ اس کے بعد سندھی لغت کے ماہر مولوی علی محمد میری نے اس کا سندھی نثر و نظم میں ترجمہ کیا جو بہت پہلے بمبئی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ضلع لاڑکانہ کے مشہور ادیب اور شاعر مولوی عبداللہ اثر چانڈیو بلوچ مرحوم نے اس قصیدے کا عروضی شاعری میں سندھی منظوم ترجمہ کیا جو کہ غالباً ۱۹۵۰ء میں کراچی کے ناشر بشیر احمد اینڈ سنز نے بہترین عربی سندھی ٹائپ میں شائع کیا، جس پر سندھ کے دو بڑے علما مولانا غلام رسول صاحب، پیڑو چانڈیو اور مولوی غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کی علمی تقریظ موجود ہے۔ یہ مطبوعہ نسخہ اب نایاب ہے۔ فقیر علی محمد قادری (ڈوکری والے) کا ترجمہ ان کے فرزند میر محمد نے ”بحر الاسرار قادری“ کے نام سے شائع کیا۔

قصیدہ بانٹ سعاد: یہ ایک دوسرا مشہور عربی قصیدہ ہے جس کو ایک حکایت کے مطابق رسول کریم نے
 ساطح پسند فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے یعنی کوب بن زہبہ کو اپنی چادر پہنائی تھی۔ اس قصیدے کا سندھی منظوم
 ترجمہ مولوی عبداللہ اثر چانڈیو مرحوم نے کیا، لیکن اب تک شائع نہیں ہوا ہے۔

مولود: ”مولود“ ایک مخصوص نام ہے جو کہ سندھ والوں کا رائج کردہ ہے، ویسے ”مولود“
 عربی میں (جمع موالید) نئے پیدا شدہ بچے کو کہتے ہیں مثلاً بچہ یا طفل، لیکن آنحضرت کی ولادت اور رسول
 انسان کی بھلائی و بہبودی کے لیے اہم پیش خیمہ تھا اور حضور اکرم کی محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے
 اپنے عقیدے کے زیورات کے لحاظ سے اس دنیا میں کسی کا پیدا ہونا یا ورود تسلیم کیا تو صرف حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بابرکات کا ہی تسلیم کیا، اس لیے سندھ والوں نے نبی کریم کی پیدائش
 اور ولادت کو سفت و ستائش کا مرکز و محور قرار دیا اور آنحضرت کی شان میں کہے ہوئے شعر کو ”مولود“
 کہا۔ ”مولودوں“ میں حضور اکرم کی پاک زندگی کے بعض واقعات بھی بیان کیے ہیں، مثلاً
 آپ کی شادیاں، آپ کے معجزے اور اس کے علاوہ نصیحتیں بھی دی گئی ہیں۔

سندھ کے قدیم شعرا جن کے کلام میں ”مولود“ کی صفت ملتی ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ میوں شاہ عنات رضوی

۲۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی (۱۱۰۲ھ - ۱۱۶۵ھ)

۳۔ مخدوم عبدالرؤف بھٹی (۱۰۹۴ھ - ۱۱۶۶ھ)

(۴) مخدوم غلام محمد بگٹائی

(۵) مخدوم محمد اسماعیل پریاں کوٹی (وفات ۱۱۷۴ھ)

بالا کہنہ (ضلع حیدرآباد) کے مخدوم عبدالرؤف بھٹی (۱۶۹۳ - ۱۷۷۲ء) کے لکھے ہوئے ”مولود“
 سندھ کے کونے کونے میں مشہور و مقبول ہیں اور ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، ان کی مدحتیں بھی مشہور
 ہیں۔ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ”مولود“ کے عنوان کو وسعت دی۔ نبی کریم کی ثنا، آپ کی مودت و
 محبت، شفاعت کی طلب اور امید، حاجیوں کی حج کو روانگی کا ذکر وغیرہ، مخدوم صاحب کے عنوان
 ہیں۔ مخدوم کا مجموعہ ”مولود شریف“ سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا ہے۔ (دیکھیے فہرست ۹۷)
 اس صنف کے مختلف شاعروں کے کہے ہوئے مولودوں کا مجموعہ بھی سندھی ادبی بورڈ نے لوک ادب

کے سلسلے میں شائع کیا ہے (دیکھیے فہرست نمبر ۹۱ نیز فہرست میں دیکھیے نمبر ۸۵ - ۹۳ - ۹۶)۔
 مدح و مناجات : ”مولود“ کی طرح ”مدح“ اور ”مناجات“ بھی سندھی نظم کی قدیم اور مقبیل صنف ہے۔ ”مدح“ بھی معنوی لحاظ سے ”نعت“ یا ”ثنا“ کے برابر ہے۔ ”مدح“ کہنے والے شاعر کو سندھی میں ”مداحی“ کہتے ہیں۔ ”سندھی میں ”مناجات“ بھی ”مدح“ کی طرح ایک خاص صنف ہے جس میں شاعر اپنی تکالیف، دکھ درد اور حالت زار کے متعلق درگاہِ ایزدی میں عجز و انکساری کرتا ہے، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے سوال کرتا ہے، یا شاعر اپنی ذاتی عقیدت و محبت کی بنا پر نبی کریم ﷺ کا پرستار یا کسی ولی اور درویش کو پرستار کرتا ہے۔ ”مناجات“ میں خداوند تعالیٰ کی تعریف، آنحضرت اور صحابہ کرام کی مدح یا کسی ولی اور درویش کی تعریف کی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر ”مدح“ میں ثنا و تعریف اور ”مناجات“ میں مشکلات کے حل کا جزو غالب ہوتا ہے۔ (فہرست نمبر ۸۰)۔
 مناقب : لفظ ”مناقبہ“ سندھی میں ”مناقبو“ اصل میں عربی لفظ ”منقبۃ“ (جمع ”مناقب“) ہے، جس کے معنی ہیں نیکی، درجہ، منزل یا پختن۔ سندھی میں ”مناقبو“ خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس نظم کی صنف میں نبیوں، صحابہ کرام یا ولی اور درویش کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ ”مناقب“ کے عنوان سے جو سندھی نوک ادب کے سلسلے میں دوسری کتاب شائع ہوئی ہے۔ (دیکھیے فہرست ۸۷)۔ اس میں ”مناقب“ کے سارے مواد کو چار اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(الف) نبی کریم سے پہلے نبیوں کی شان میں کہے ہوئے مناقبے

(ب) نبی کریم کی شان میں کہے ہوئے مناقبے

(ج) صحابہ کرام کی شان میں کہے ہوئے مناقبے

(د) ولیوں کی شان میں کہے ہوئے مناقبے

اس میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی کا لکھا ہوا معراج شریف، نور اور پیدائش حضور اکرم کے مناقبے ہیں۔ مخدوم عبدالرؤف بھٹی کے مناقبے بھی درج ہیں۔

نوک ادب کے سلسلے میں اس کے علاوہ ”معجزہ“ (منظوم۔ فہرست نمبر ۸۸) ”نبیہ“

اکھریوں، حصہ اول و دوم (منظوم فہرست ۱۹ - ۲۰)، نزل بابیت (منظوم۔ فہرست ۹۲)

اور فور بیت (منظوم - فہرست نمبر ۹۳) شائع ہو چکے ہیں اور ان کتابوں میں سندھ کے قدیم صوفی شعرا کا کلام ہے، جس میں آنحضرت کے معجزات کا بیان، مناجاتیں اور ولادت باسعادت کا ذکر وغیرہ منظوم لکھا گیا ہے۔ لوگ ادب کے بارے میں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے اور یہ سندھی کتبیں لوگ ادب کی مذہبی نوعیت اور اسلامی تعلیمات و ثقافت کے اثر کو اجاگر کرتی ہیں۔

سیرت رسول کریم : یہ کتاب سیرت پاک پر مولوی محمد عثمان کھور و اسی نے لکھی تھی اور یہ تصنیف چودھویں صدی کے اوائل کی ہے۔ یہ کتاب لیتھو پریس کوٹری سے شائع ہوئی، لیکن اب یہ مطبوعہ کتاب ناپید ہے۔

حیاء النبی : یہ کتاب نشر میں مولوی حکیم فتح محمد سیوہانی کی لکھی ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ۱۹۱۴ء میں شائع ہوئی۔ (ملاحظہ ہو فہرست ۲۶)

سندھی ہندوؤں پر سیرت پاک کا اثر : سندھی ہندوؤں پر بت پرستی غالب نہیں تھی وہ صوفی منش تھے اور ان کا عقیدہ سندھ کے اولیائے گرام کی عقیدت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے زیر اثر تھا۔ وہ سندھ کے تمام صوفی بزرگوں کی عزت کرتے تھے اور اسی عقیدت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نبی اکرم کو منیع فیض و بخشش تصور کرتے تھے۔ یہی وہ ہے کہ سندھی ہندوؤں نے سیرت پاک پر مفید کتابیں لکھیں جو آج بھی موجود ہیں۔

۱۔ محمد رسول اللہ عرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از لال چندا مرڈا فر جگتیا نی (فہرست ۸)

۲۔ اسلام جو پیغمبر : پرتینڈ ڈوٹل مل جگتیا نی (فہرست ۹)

۳۔ میر محمد عربی : امرعل وسن مل ہنگو رانی (فہرست نمبر ۱۰)

۴۔ پیغمبر اسلام : جیٹھ رام پریس رام گلرا جانی (فہرست نمبر ۱۱)

ضلع لاڑکانہ سندھ کے مشہور مدرس مولوی محمد عظیم خاں کی کتاب ”سیرت مصطفیٰ“ سال ہی میں سندھی

ادبی بورڈ حیدر آباد نے شائع کی ہے۔ فہرست نمبر ۱۰۱ اس کتاب پر حکومت پاکستان کی طرف سے فروری ۱۹۸۰ء

میں موقوف کوڑس بڑا روپیہ انعام بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ”سیرت پاک“ پر جو کچھ سندھ میں عربی، فارسی،

اور سندھی میں ادبی ذخیرہ موجود ہے وہ اپنی دینی افادیت کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے۔